



سوال

کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹھانے والے کی نماز

جواب

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته

جب کپڑا یا پتلون وغیرہ اس قدر لمبی ہو کہ وہ ٹخنوں سے نیچے پہنچ رہی ہو تو کیا اس کے ساتھ نماز صحیح ہوگی؟

اجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السوال

و علیکم السلام ورحمة الله وبركاته!

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد!

پتلون وغیرہ کو ٹخنوں کے نیچے لٹھانا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ :

ما أغل من المحبين من الازار فوفي انار (صحیح مباری)

ازار کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم کی آگ میں ہو گا۔^{۱۱}

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جواز کی بابت فرمایا ہے باقی کپڑوں کے لئے بھی یہی حکم ہے لہذا ہر مسلمان کے لئے یہ واجب ہے کہ وہ اپنی پتلون اور دیگر کپڑوں کو پہنچنے سے اونچا کرے اور اگر کپڑے نیچے لٹک رہا ہو تو اس حالت میں پڑھی جانے والی نماز کے بارے میں اہل علم میں اختلاف ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ نماز صحیح ہو گی کیونکہ آدمی نے واجب یعنی ستر بلوشی کے حکم کو پورا کر دیا ہے۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ اس حالت میں نماز صحیح نہ ہو گی کیونکہ اس نے ستر بلوشی کی ہے انہوں نے ستر بلوشی کے لئے یہ بھی شرط قرار دی ہے کہ وہ جائز کپڑے کے ساتھ ہو لہذا کپڑوں کے ٹخنوں سے نیچے ہونے کی صورت میں خطرہ ضرور ہے۔ لہذا سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے لپٹنے کپڑے اور پٹاحلیئے چاہیں تاکہ وہ ٹخنوں سے اوپر اور پر رہیں۔

حدا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ



جَمِيعَ الْكِتَابِ لِلْأَمَّةِ
ISLAMIC RESEARCH COUNCIL
امَّةُ الْكِتَابِ

محدث فتوی